

لما کے استعمالات

Lamma is used

لما (حرف جزم و نفي و قلب) اس حالت میں فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور مضارع کو مجزوم کرتا ہے لفظی طور پر اور مضارع کو منفی بناتا ہے اور ماضی کے معنی میں بدل دیتا ہے۔

Lamma (Harf Jazmin wa nafin wa qalbin): It occurs before Fail Mudare and makes it Majzoom word wise and makes Mudare negative and changes its meaning to past tense.

لما (بمعنی "حین ظرف زمان") اس صورت میں "لما" حین ظرف کے معنی میں آتا ہے حین وقت اور زمانے کیلئے آتا ہے یہ **لما** وقتیہ ہے (وقت بتانے کیلئے ہے) اور وہ ظرف زمان ہے اور یہ مخصوص ہوتا ہے ماضی کیسا تھ اور اس کا جواب فعل ماضی ہوتا ہے

Lamma (in the sense of Zarf Zaman 'Heena'. It occurs for time and period. This is Lamma Waqtayah (to show time). It is Zarf Zaman (adverb of time) and specifically followed by past tense. Its answer is in past tense. e.g. When I saw him, I greeted him.

اس حالت میں "لما" فعل ماضی سے پہلے داخل ہو کر ایسے دو جملوں پر مشتمل ہوتا ہے جن میں سے دوسرے جملے کا وجود پہلے جملے کے پائے جانے کے وقت ہوتا ہے اس "لما" میں "حین" کی وجہ سے ایک شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور دوسرا جملہ "لما" کا جواب فعل ماضی ہی ہوتا ہے

In this case occurring before Past tense, it consists of two such sentences as the second sentence coincides with the first one. This Lamma, because of the meaning of Heena, has a sense of condition and the second sentence, the Jawaabu Fail of Lamma is in the past tense.

﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ (البقرة: 17)

پھر جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی بجھا دی

When it lighted all around him, Allah took away their light and left them in darkness.

﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾ (الاعراف: 22)

پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان پر ان کی شرم گاہیں کھل گئیں

When they tasted of the tree, their private parts became apparent to them,